


ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟

اگر آپ کے پاس دو لیبلوں والا خط بے جسمیں آپ کو ٹیسٹ کرانے کیلئے کہا گیا ہے تو آپ مرحلہ 1 اور مرحلہ 2 پر عمل کریں اور پھر مرحلہ 3 پر جائیں

اگر آپ کے پاس ایسا خط نہیں ہے، تو پھر آپ مرحلہ "1اے" سے شروع کریں




بڑے لیبل کو اُس شناختی فارم پر چسپاں کریں جو کٹ کے مرکزی حصے میں پڑا ہے اور پھر فارم کو بھر لیں



چھوٹے لیبل پر ٹیسٹ کی تکمیل کی تاریخ لکھ لیں اور پھر اُس کو ٹیوب کے اُس ہموار سائیڈ پر چسپاں کریں جہاں پر "نام"، "تاریخ" کے الفاظ پہلے سے لکھے گئے ہیں۔




شناختی فارم اور لیبل کو اختیاط سے بھریں، جو کٹ کے مرکزی حصے میں پڑے ہیں۔



لیبل کو ٹیوب کے اُس ہموار سائیڈ پر چسپاں کریں جہاں پر "نام"، "تاریخ" کے الفاظ پہلے سے لکھے گئے ہیں۔ پھر مرحلہ 3 پر جائیں



اسٹیکرز کی مدد سے ٹوائٹ پر فضلہ/سٹول جمع کرنے والا کاغذ چسپاں کریں کاغذ کو آہستہ سے دبائیں تاکہ اس میں ایک چھوٹا سا کھوکھلا بن جائے۔




اہم بات : ٹیسٹ کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ فضلہ/سٹول کسی بھی مائع چیز (پیشاب، بلیچ...) کے ساتھ نہیں لگ جانا چاہیے۔



ٹیوب کھولنے کیلئے ٹیوب کے سر/ٹوپی کو گھمائیں



راڈ/ڈنڈے کی مدد سے فضلے/سٹول کی سطح کو کئی جگہوں پر رگڑیں۔




راڈ/ڈنڈے کا اُبھرا ہوا حصہ فضلے/سٹول سے ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے



ٹیوب کو بند کریں اور بھرپور طریقے سے اسے ہلائیں



اس بات کی توثیق کریں کہ آپ نے لیبل کو اچھی طرح بھر لیا ہے اور ٹیوب پر چسپاں کر لیا ہے، پھر ٹیوب کو حفاظتی بیگ میں ڈال دیں



T لفافے میں ڈالیں :
* ٹیوب والا حفاظتی بیگ،
* مکمل شناخت والا فارم

لفافے کو دوبارہ بند کریں۔



لفافے کو بھیجنا
ٹیسٹ ضروری ہے
مکمل ہونے کے بعد،
24 گھنٹوں کے اندر

مزید معلومات :

* اپنے ڈاکٹر کے پاس

* e-cancer.fr پر، عنوان "اسکریننگ"

* ٹیلون نمبر 0805123124 پر

(ایک مقامی کال کی لاگت)

پیر سے جمعہ، صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک، اور ہفتے کے روز صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک

* اپنے علاقے میں اسکریننگ کے انچارج کے پاس

اکثر پوچھے گئے سوالات :

ٹیسٹ کے استعمال کی مدت کیا ہے؟
میعاد ختم ہونے کی تاریخ متعین کیا گیا ہے

ٹیوب سے متعلق سوالات :

میں نے ٹیوب کھو دیا ہے / میرا ٹیوب ٹوٹ گیا ہے۔
مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اپنے ڈاکٹر سے ایک نئی ٹیسٹ مانگو۔

آپ کو نتائج ڈاک کے ذریعے 15 دنوں میں بھیجے جائیں گے۔ اگر آپ نتائج کو انٹرنیٹ کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر رجسٹر ہو جائیں :

www.resultat-depistage.fr

ٹیسٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟

اپنے ڈاکٹر یا اپنے علاقے میں اسکریننگ کے انچارج سے رابطہ کریں۔

وہ آپ کو مشورہ دے گا اور آپ کو ایک نئی ٹیسٹ دے گا۔